

ماڈیول ۲۸

حدیث نمبر 46

ہر نشہ آور چیز حرام ہے

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
"ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔"

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے واضح طور پر ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یمن میں بنائے جانے والے کچھ مشروبات کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا، جن میں شہد اور جو کا ذکر تھا۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس کی وضاحت میں نبیذ اور خمر کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو نشہ پیدا ہونے کی صورت میں حرام ہو جاتے ہیں۔

نبیذ:

نبیذ وہ مشروب ہے جو تازہ یا خشک پھلوں (جیسے انگور، سیب، کھجور) کو پانی میں ڈال کر بنایا جاتا ہے۔ جب پھل پانی میں ڈال کر نرم ہو جاتا ہے، اسے نکال کر کپڑے میں ڈال کر نچوڑا جاتا ہے۔ اس کا جو پانی نکلتا ہے، اسے "نبیذ" کہا جاتا ہے۔ یہ مشروب عظیم سوزکت اور طاقت کا مالک ہوتا ہے۔

نبیذ کا استعمال:

نبی ﷺ اس مشروب کو بہت زیادہ پیتے تھے، لیکن اس میں یہ ضروری شرط تھی کہ اس میں نشہ نہ ہو۔ اگر اس میں نشہ آجائے، تو اس کا پینا حرام ہو جاتا ہے۔



نشہ کیسے پتا چلتا ہے:

اگر نبیذ میں نشہ آجائے، تو اس میں دو نشانیاں ہوتی ہیں:

1. جب اس سے "جھک" (تھلیکات) محسوس ہو۔
2. جب اس میں کھٹاس اور کڑواہٹ محسوس ہو، جو نشہ ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

نبیذ بنانے کا اثر:

سردیوں میں: نبیذ کو دو سے تین دن تک پیا جاسکتا ہے، اس میں جلدی نشہ نہیں ہوتا۔
گرمیوں میں: اگر نبیذ کو زیادہ دیر تک چھوڑا جائے تو اس میں نشہ جلدی آجاتا ہے اور پھر اس کا پینا حرام ہو جاتا ہے۔
اگر نبیذ کو فریج میں رکھ کر رکھا جائے، تو اس میں نشہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور آپ اسے کچھ دن تک پی سکتے ہیں۔

گرمیوں میں نبیذ کا استعمال:

گرمیوں میں اگر آپ نبیذ کو ایک دن تک بھی رکھتے ہیں، تو اس میں نشہ آجاتا ہے۔ لیکن اگر اسے فریج میں رکھا جائے، تو اسے زیادہ دن تک پی سکتے ہیں۔

خمر:

خمر وہ چیز ہے جو نشہ کرتی ہے اور اسلام میں ہر طرح کا نشہ حرام ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا "کل مسکر حرام"۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔
خمر کا استعمال، چاہے وہ شراب ہو، یا کوئی اور چیز جو نشہ کرے، حرام ہے۔ خمر کا استعمال کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔

نشہ آور مشروبات کے نقصانات:

نشہ آور چیزوں کو قرآن میں شیطانی عمل کہا گیا ہے، جو انسانوں کے درمیان دشمنی اور فساد کا سبب بنتی ہیں۔ نشہ آور چیزیں انسان کو نماز



اور ذکرِ الٰہی سے روکتی ہیں اور صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے، وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، شراب پینے والے کی نماز بھی چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی۔

شراب اور نشے کی سنگینی:

رسول اللہ ﷺ نے نشہ آور چیزوں کو ہر برائی کی جڑ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ تھوڑی یا زیادہ مقدار میں شراب پینا دونوں ہی حرام ہیں۔ یہاں تک کہ شراب نوشی کی جگہ پر بیٹھنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ قیامت کی نشانوں میں سے ایک یہ ہوگی کہ لوگ شراب کو نئے ناموں سے پکاریں گے، لیکن اس کا پینا اور اس سے متعلق ہر عمل حرام ہی رہے گا۔

شراب کی سزا اور حد:

شراب نوشی پر اسلامی شریعت میں سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ پہلی تین بار شراب پینے والے کو کوڑے مارے جائیں گے، اور چوتھی بار شراب پینے پر اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حد کو مزید سخت کر کے اسی کوڑے تک بڑھا دیا تھا۔

حدیث نمبر 47

کم کھانے پر اکتفا کرنا

حضرت مقداد بن معدی کریب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"کسی انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ انسان کے لئے کچھ لقمے کافی ہیں جو اس کے جسم کو ٹھیک رکھ سکیں۔ اگر زیادہ کھانا ہی ضروری ہو، تو پیٹ کے ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، اور ایک حصے میں سانس لینے کی جگہ چھوڑ دی جائے۔"

نبی کریم ﷺ نے انسان کو کم کھانے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا کہ انسان کے لئے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں۔ اگر زیادہ کھانے کی ضرورت ہو تو پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے: ایک حصہ کھانے کے لئے، ایک پانی کے لئے، اور ایک سانس لینے کے لئے۔ زیادہ کھانا نہ صرف دنیا میں بیماریوں کا سبب بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی نقصان دہ ہے۔



کھانے میں اسراف سے پرہیز:

کھانے پینے میں اسراف کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا لے کر اسے ضائع کرنا۔ کھانے کو ضائع کرنے کی بجائے اسے محفوظ کر کے کسی اور کو کھلا دینا چاہیے یا جانوروں کو دینا چاہیے۔

نعمتوں کا احترام:

رسول اللہ ﷺ نے روٹی کی عزت کرنے کی تلقین کی ہے اور کھانا ضائع کرنے کو ناشکری قرار دیا ہے۔ یہ ناشکری اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لئے ہمیں نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور انہیں ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔



Hadith Number 46

Har Nashay Awar Cheez Haram Hai

Hazrat Abu Musa Ash'ari رضى الله عنه se riwayat hai ke Nabi Kareem ﷺ ne farmaya:
"Har nasha awar cheez haram hai."

Is hadees mein Nabi Kareem ﷺ ne wazeh tor par har nasha aawar cheez ko haram qarar diya hai. Hazrat Abu Musa Ashari رضى الله عنه ne Yaman mein banaye jane wale kuch mashroobat ke baare mein Rasool Allah ﷺ se sawal kiya, jismein shehad aur jo ka zikar tha. Nabi ﷺ ne farmaya ke har nasha awar cheez haram hai. Is ki wazahat mein nabeez aur khamr ka tazkira kiya gaya, jo nasha paida hone ki surat mein haram ho jate hain.

Nabeez:

Nabeez woh mashroob hai jo taze ya khushk phalon (jaise angur, seb, khajoor) ko pani mein daal kar banaya jata hai. Jab phal pani mein daal kar naram ho jata hai, usay nikal kar kapde mein daal kar nichoda jata hai. Iska jo paani nikalta hai, usay "Nabeez" kaha jata hai. Yeh mashroob azeem sazaqat aur taqat ka malik hota hai.

Nabeez ka Istamal:

Nabi ﷺ is mashroob ko bohat zyada peete thay, lekin ismein ye zaroori shart thi ke ismein nasha na ho. Agar ismein nasha aajaye, toh uska peena haram ho jata hai.

Nasha Kaise Pata Chalta Hai:

Agar nabeez mein nasha aajaye, toh ismein do nishaniyan hoti hain:

- Jab isse peene par "jhak" (tahlikat) mehsoos ho.
- Jab isme khata aur karwahat mehsoos ho, jo nasha hone ki taraf ishara karti hai.

Nabeez Banane ka Asar:

Sardiyan mein: Nabeez ko do se teen din tak piya ja sakta hai, ismein jaldi nasha nahi hota.

Garmiyon mein: Agar nabeez ko zyada der tak chhoda jaye toh usmein nasha jaldi ho jata hai aur phir iska peena haram ho jata hai.

Agar nabeez ko fridge mein rakh kar rakha jaye, toh usmein nasha dheere dheere hota hai aur aap isay kuch din tak pi sakte hain.



Garmiyon mein Nabeez ka Istamal:

Garmiyon mein agar aap nabeez ko ek din tak bhi rakhte hain, toh usmein nasha aajata hai. Lekin agar usay fridge mein rakha jaye, toh isay zyada din tak piya ja sakta hai.

Khamr:

Khamr woh cheez hai jo nasha karti hai aur Islam mein har tarah ka nasha haram hai. Nabi ﷺ ne farmaya "Kullu muskirin haramun" - har nashaawar cheez haram hai.

Khamr ka istemal, chahe woh sharab ho, ya koi aur cheez jo nasha kare, haram hai. Khamr ka istemal kisi bhi soorat mein jaiz nahi hai.

Nasha Aawar Mashroobat Ke Nuqsanaat

Nasha aawar cheezon ko Quran mein shetani amal kaha gaya hai, jo insanon ke darmiyan dushmani aur fasaad ka sabab banti hain. Nasha aawar cheezein insan ko namaz aur zikr e Ilahi se rokhti hain aur sehat ko nuqsan pohanchati hain. Nabi Kareem ﷺ ne farmaya ke jo shakhs duniya mein sharab peeta hai, woh aakhirat mein jannat ki sharab se mehroom kar diya jaye ga. Is ke ilawa, sharab peene wale ki namaz bhi chalish din tak qubool nahi hoti.

Sharab Aur Nashe Ki Sangini

Rasool Allah ﷺ ne nasha aawar cheezon ko har burai ki jarr qarar diya hai aur farmaya ke thori ya zyada miqdaar mein sharab peena dono hi haram hain. Yahan tak ke sharab noshi ki jagah par baithna bhi haram qarar diya gaya hai. Qayamat ki nishaniyon mein se ek yeh hogi ke log sharab ko naye naamon se pukarein ge, lekin is ka peena aur is se mutaliq har amal haram hi rahe ga.

Sharab Ki Saza Aur Hadd

Sharab noshi par Islami shariat mein sakht sazain muqarrar ki gayi hain. Pehli teen baar sharab peene walay ko koray maray jainge, aur chothi baar sharab peene par usay qatal karne ka hukum hai. Hazrat Umar رضي الله عنه ne is hadd ko mazeed sakht kar ke assi koray tak barha diya tha.

Hadith Number 47

Kam Khane Par Iktifa Karna

Hazrat Miqdad bin Ma'di Karib رضي الله عنه se riwayat hai ke Nabi Kareem ﷺ ne farmaya: "Kisi insan ne apne pait se zyada bura koi bartan nahi bhara. Insaan ke liye kuch lukkmein kaafi hain jo uske jism ko theek rakh sakein. Agar zyada khana hi zaroori ho, toh pait ke ek hisse mein khana, ek hisse mein pani, aur ek hisse mein saans lene ki jagah chorii jaaye."



Nabi Kareem ﷺ ne insan ko kam khanay ki targhib di hai aur farmaya ke insan ke liye chand luqmay kafi hain jo us ki kamar seedhi rakh sakain. Agar zyada khanay ki zarurat ho to pait ko teen hisson mein taqseem kiya jaye: ek hissa khanay ke liye, ek pani ke liye, aur ek saans lene ke liye. Zyada khana na sirf duniya mein bimariyon ka sabab banta hai balki aakhirat mein bhi nuqsan deh hai.

Khanay Mein Israaf Se Parhaiz

Khanay peenay mein israaf karna haram hai. Allah Ta'ala Quran mein farmate hain ke khao piyo, lekin israaf na karo, kyun ke Allah israaf karne walon ko pasand nahi karta. Israaf ka matlab yeh hai ke zarurat se zyada khana le kar usay zaya karna. Khanay ko zaya karne ki bajaye usay mehfooz kar ke kisi aur ko khila dena chahiye ya janwaron ko dena chahiye.

Naimaton Ka Ehtram

Rasool Allah ﷺ ne roti ki izzat karne ki talqeen ki hai aur khana zaya karne ko nashukri qarar diya hai. Yeh nashukri Allah ki narazgi ka sabab ban sakti hai. Is liye humein naimaton ki qadr karni chahiye aur unhein zaya karne se bachna chahiye.

